

Urdu - ICS Part 2 Urdu Chapter 8 Short Questions Preparation

Q1. - مشکل الفاظ کی معنی تحریر کریں۔

Ans 1: جان چھڑانی: نجات پائی، پیچھا چھڑایا۔ بین ایم: امریکی ہوائی کمپنی، پان امریکی انیر لائن۔ کھٹارا: پرانا۔ انا اللہ پڑھ لیا: مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خاک چھاننا: جگہ جگہ گھومنا پھر ناخاطر مدارت: تواضع، مہمان نوازی۔ جل تو جلال تو: خدا سے دعا کہ وہ بلاؤں سے محفوظ رکھے۔

Q2. - مشکل الفاظ کی معنی تحریر کریں۔

Ans 1: آئے دال کا بھاؤ معلوم ہونا: حقیقت حال واضح کرنا۔ سات پشتوں پر احسان: بہت زیادہ احسان کرنا۔ شاب: جوانی۔ ہر رنگ ہر رنگ: زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی: ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھی۔ عمیق تر: زیادہ گہرا۔ انکھیں خیرہ ہونا: آنکھیں چندیا جانا۔ سنگلاخ: پتھر پلے۔ کو ہسار: پہاڑ۔ زلی برسائوں کا رین بسیرا: بمبیشہ سے برسنے والی برسات کا ٹھکانا۔ علوم سمندر: علم کی شاخ جس میں سمندروں اور ان کے متعلقات کے بارے میں بتایا۔ حس کے لنگر: ہر طرف حس ہی حس۔ افراط: کثرت

Q3. مندرجہ ذیل اقتباس کا حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح کریں۔ "اس مغرب و مغرب کے مرکز کا ایک جاپانی باغ..... یہ معاشرتی تنوع بھی ایک "تعلیمی حیثیت رکھتا ہے"

Ans 1: حوالہ متن: سبق کا عنوان: ہوائی مصنف کا نام: بیگم اختر ریاض الدین

Q4. - مشکل الفاظ کی معنی تحریر کریں۔

Ans 1: مسلط ہونا: دنیا میں خوب صورت مقامات دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے سفر کرنے کی خواہش،۔ ٹوکیو: جاپان کا دار الحکومت۔ ہونولولو: ریاست ہوائی کا صدر مقام۔ بحراکابل: سمندر کا وہ حصہ جو براعظم شمالی و جنوبی امریکا اور جاپان کے درمیان واقع ہے۔ ڈھاریں: سہارا، آسرا۔ الامان: خدا کی پناہ۔ اللہ اللہ کرتے: اللہ کو یاد کرتے اس سے گناہوں کی معافی مانگتے۔ بول: خوف، ڈر، فکر، اندیشہ۔ میرے میں: میرے شوہر۔ مراجعت: واپسی۔ اوکھلی میں سرد یا تو ان دھمکوں سے کیا درنا: جب کسی مشکل یا خطرناک راسے پر چل نکلے تو پھر راستے کی مشکلات یا تکالیف سفر سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ طاق ہونا: ماہر ہونا۔ پل بھرنا: بہت۔ بی او اے سی۔ کسر شان: شان میں کمی، شان کے خلاف۔ پہلی ٹھیلی کلکتہ میں لگائی: پہلی بار کلکتہ میں دم لیا، تکا اتارنے کے لیے مختصر سا آرام کیا۔ ناگفتہ بہ: ناقابل بیانا، خراب۔ مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا: مرزا غالب نے کلکتہ کی بہت تعریف کی ہے

Q5. سبق ہوائی کا تعارف اور پس منظر بیان کریں۔

Ans 1: میاں ریاض الدین احمد حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسر تھے۔ وفاقی سیکرٹری اور رومانیہ میں سفیر رہے، ملازمتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں انہیں کبھی کبھار بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تو ان کی بیگم کو بھی ان کے ہمراہ سیر و سیاحت کا موقع مل جاتا۔ بیگم اختر لکھنے لکھانے کا فطری ذوق رکھتی تھیں وہ اپنے مختلف سفروں کے حالات قلمند کرتی رہیں۔ ان کا مشاہدہ اچھا تھا اور اسلوب بیانا بھی دلچسپ ان کی یہ سیاحتی تحریریں خاصی مقبول ہوئیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے دو کتابیں شائع کیں سات -سمندر بار دھنک پر قدم

Ans 2: یہ دونوں سفر نامے اردو قارئین میں بہت مقبول ہوئے۔

Q6. - مشکل الفاظ کی معنی تحریر کریں۔

Ans 1: گڑگڑا کر: عاجزی سے۔ مراد پوری کرنا: آرزو پوری کرنا۔ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سر کرنا۔ گزر گیا: نہایت آرام سے گزرا۔ گجرا: دھاگے میں پردے ہوئے پھول۔ بیوی ویٹ چمپین: مقابلے میں سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔ تنبیہ: سرزنش، نہرکی، دھمکی۔ واللہ علم: اللہ بہتر جانتا ہے

Q7. سبق ہوائی کا مرکزی خیال تحریر کریں.

Ans 1: بحر الکاہل کا سر سبز و شاداب جزیرہ ہوائی ہے حد حسین ہے یہاں کی ہوائی یونیورسٹی 'ایسٹ ویسٹ منسٹر' جاپانی باغ اور سپر مارکیٹ جزیرے کے حسن اور دل کش کو چار چاند لگاتے ہیں

Q8. مندرجہ ذیل اقتباس کا حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح کریں۔ "اس مغرب و مغرب کے مرکز کا ایک جاپانی باغ.....یہ معاشرتی تنوع بھی ایک "تعلیمی حیثیت رکھتا ہے"

Ans 1: سیاق و سباق: بیگم اختر ریاض الدین کا جزائر، ہوائی تک کا سفر درتے مگر نہایت آرام سے گزرا۔ کلکتہ میں زرا رک کے ٹوکیو میں جا دم لیا ہواں سے ہوائی کے صدر مقام ہونولولو تک ہوائی جہاز کا سفر خلاف توقع ہے حد خوش گوار رہا۔ استقبال بھی خوب ہوا۔ گھر کو جھاڑتے، صاف کرتے کچھ دن لگے پھر سیر سپاتے ہونے لگے۔ ہوائی کا ایسٹ ویسٹ سنٹر جہاں مشرق و مغرب کے سکالرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ علم و ادب کا عمدہ مرکز ہے۔ اسی سینٹر میں مصنفہ کے میاں بطور سکالر مدعو تھے ہوائی یونیورسٹی بھی قابل دید ہے کہ اس کا میلوں میں پھیلا کیمپس تعلیمی سہولتوں کے علاوہ پھولوں بھری روشیں اور معاشرتی تنوع ایک عمدہ نمونہ ہے

Q9. مندرجہ ذیل اقتباس کا حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح کریں۔ "اس مغرب و مغرب کے مرکز کا ایک جاپانی باغ.....یہ معاشرتی تنوع بھی ایک "تعلیمی حیثیت رکھتا ہے"

Ans 1: تشریح: ہوائی میں نیلا سمندر، پھولوں بھر ہوائی یونیورسٹی مشرق و مغرب کا معاشرتی ملغوبہ ایسٹ ویسٹ سنٹر اور امریکی تہذیب کی نمائندہ سپر مارکیٹ سب دیکھنے کے لائق ہیں لیکن ان کے علاوہ وہاں کا جاپانی باغ بھی قابل دید ہے۔ یہ کس قدر دل کش ہے کہ مصنفہ کو جب بھی موقع ملتا۔ بلکہ کہیں اور آتے جاتے بھی باغ کی سیر ضرور کرتیں۔ اس میں رنگارنگ پھولوں کی اس بہتات تھی۔ رنگا رنگ مچھلیاں بھی اس باغ کے تالاب میں موجود تھیں۔ یونیورسٹی کا احاطہ میلوں پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف خوب صورت پھولوں بھری روشیں اور سبزہ زار ایسے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ یونیورسٹی کی اس خوب صورتی کا ای دوسرا عنصر وہاں کے طلبہ تھے جو دنیا بھر کے مختلف ممالک سے یہاں آکر تعلیم حاصل کرتے۔ ای بین الاقوامی میلہ سا لگا رہتا۔ ان کا ربط ضبط، علمی مباحثے اور علم کی پیاس بجھانے کے مواقع خوب تھے اور یہ مختلف معاشروں کے رنگا رنگ لوگ تھے۔ کیا خوب معاشرتی تنوع تھا۔ مصنفہ نے ہوائی کے ماحول اور کلچر کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سماں بندھ گیا ہے

Q10. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں

Ans 1: زخائر: بڑے ذخیرے والا، بہت بھرا ہوا۔ برسر پیکار ہوا: مقابلہ یا کام شروع کیا۔ مہا گرد: سب سے بڑا۔ بساطی: چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والا۔ دیوالیہ ہو گئے: کنگال ہو گئے۔ اختراع: بنی چیز گھڑنا۔ نرسری: شیر خوار بچوں کو سنبھالنے رکھنے کے لیے انتظامات۔ سیکنڈ ہینڈ: پرانی۔ توشل: زریعہ، وساطت۔ پھٹیچر: پرانا بیکار۔ پر اسرار: بھیدوں بھرے۔ بے سرو پا: جس کا کوئی سر پیر نہ ہو